

برائے فوری اجراء

## سٹی کا انوویشن ڈسٹرکٹ نئے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کو خوش آمدید کہتا ہے

برامپٹن، آن (22 ستمبر 2020) - اپنی گذشتہ میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل نے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ (FI)، جو کہ اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل نئی کمپنیوں کو معاونت فراہم کرنے والی عالمگیر سطح کی ایک ایکسلیٹر فرم ہے، کے ساتھ شراکت داری کے حوالے سے ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ شراکت داری میں فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کے لیے تین سال تک فی سال \$30,000 کی مالی معاونت شامل ہے۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو ایک **انوویشن ڈسٹرکٹ** بنانے کے حوالے سے FI کا اضافہ ایک ایسا عملی قدم ہے، جو انٹرپرائیوز اور کاروباروں کو ان کے سفر کے ہر مرحلے کے دوران معاونت فراہم کرے گا۔ سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں کی جانے والی توسیع سٹی کی **معاشی بحالی کی حکمت عملی** کا ایک کلیدی ہدف ہے۔

FI کمپنیوں کو خصوصی پروگرامنگ، تربیتی کورسز، مالی معاونت تک رسائی اور عالمی معیار کے ایک اعلیٰ نیٹ ورک کے ساتھ تعارف کے ذریعے کمپنیوں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ FI نے 4,300 سے زیادہ کمپنیوں کو معاونت فراہم کی ہے جنہوں نے \$950 ملین سے زیادہ کا کاروبار کیا ہے اور عالمی سطح پر تقریباً 25,000 ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔

شراکت داری کے دیگر فوائد میں شامل ہیں:

- پروگرام میں توسیع؛ واٹر لو، ٹورانٹو اور مضافات کے علاقوں سے ٹیکنیکل انٹرپرائیوز کو برامپٹن میں لانا
- اس پروگرام میں حصہ لینے والی برامپٹن کی انٹرپرائیوز کے لیے سکارلشپس کی فراہمی
- بین الاقوامی سطح کی نئی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ترغیبی اقدامات
- سٹی کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی کاوشوں کو FI کی بین الاقوامی سطح کی کوششوں کے ذریعے معاونت فراہم کرنا
- گلوبل FI نیٹ ورک کے ذریعے برامپٹن کو اپنی ساکھ بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا
- سائبر سیکورٹی کی نئی کمپنیوں کے بانیوں کے لیے ایک وقف شدہ سائبر سیکورٹی سٹریٹجی اور پروگرامنگ کے نظام کو فروغ دینا
- سرمایہ کاروں، انٹرپرائیوز اور ایگزیکٹوز پر مشتمل ایک سرپرستانہ نیٹ ورک کا قیام عمل میں لانا

برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ کے دوسرے شراکت داروں میں شامل ہیں، برامپٹن انٹرپرائیوز سنٹر؛ کپٹالسٹ سائبر ایکسلریٹر (جس کی سربراہی راجرز سائبر سیکورٹی کپٹالسٹ اور رینرسن DMZ کے پاس ہے)؛ ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن (RIC) سنٹر؛ رینرسن وینچر زون؛ برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا (BIA)۔

### اقتباسات

"چونکہ اب ہم وباء سے نکل کر اپنی مقامی معیشت کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، ہم انٹرپرائیوز اور ممکنہ سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شہر میں منتقل ہوں اور ہمارے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ میں شامل ہو جائیں۔ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کی مدد سے ہم بین الاقوامی سطح کی نئی کمپنیوں کو اپنی جانب راغب کر سکیں گے، جس سے ہماری معیشت کو فروغ ملے گا اور یہاں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا خیر مقدم کرنے پر ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم کاروباری اداروں کو ان کے سفر کے ہر مرحلے پر معاونت فراہم کرنے کے خواہاں ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل ترقی ہماری معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی قدم ہے اور فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ اس کی کامیابی میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ اب جبکہ ہم اس وباء سے نکل کر اگلے سفر پر گامزن ہیں، ہم اپنی انٹرپرائیوز اور

کاروباری برادری کو ان کی مکمل بحالی اور مستقبل کی ترقی کے قابل بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک بھرپور مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر؛ کو-چیئر، میٹرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے وسط میں موجود ہماری بہترین لوکیشن کی وجہ سے برامپٹن جدت میں ایک عالمی رہنماء کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایکو سسٹم کو فروغ دے رہا ہے۔ ہمارا عملہ شراکت داریاں بنانے کے لیے پرعزم ہے جیسا کہ ہم نے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک شراکت داری کی ہے اور ہم برامپٹن کو انٹرپرائیونرز اور کاروباری اداروں کے لیے ایک دلکش جگہ بنانے کے لیے دیگر ضروری اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے برامپٹن کے لیے ایک ایسا مستقبل نظر آ رہا ہے جس میں برامپٹن بڑی تعداد میں نئی تکنیکی کمپنیوں کا گھر ہو گا۔ نئی تکنیکی کمپنیوں کو تارکین وطن اکثر خوب فائدہ پہنچاتے ہیں۔ برامپٹن میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس میں ملک کی سب سے کم عمر آبادی بھی رہائش پذیر ہے جو ٹورانٹو اور واٹر لو کے عالمی سطح پر شہرت رکھنے والے ٹیکنیکل ہب کے درمیان رہتی ہے۔ قریبی شہروں کے لحاظ سے مناسب لاگت کے فوائد اور تکنیکی ہب کو مغرب کی جانب راغب کرنے والی آبادی کی بنیاد پر برامپٹن میں نئی کمپنیوں کے ایک جال کو جلد فروغ دینے کی صلاحیت موجود ہے۔"

- سنیل شرما، مینجنگ ڈائریکٹر، ٹیک سٹارز ٹورانٹو؛ کو-ڈائریکٹر، فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ، ٹورانٹو اینڈ واٹرلو چیپٹرز

"فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ ایک پرکشش تکنیکی ایکو سسٹم کی تیاری کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے انتہائی پرجوش ہے۔ کسی کمپنی کا آغاز کرنے کے لیے ٹورانٹو ٹیکنیکل کوریڈور کا شمار دنیا کے بہترین مقامات میں ہوتا ہے اور ہم برامپٹن کو آگے لانے کے اس موقع پر بے حد شکر گزار ہیں۔"

- ریان مشیلیٹی، ہیڈ آف گلوبل آپریشنز، فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ

"حالیہ طور پر FI سے مستفید ہونے اور برامپٹن کے ایک شہری کے طور پر میں نے FI کی جانب سے لائے جانے والے مواقع کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ FI اور برامپٹن کی شراکت داری کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھاتے ہوئے، ہفتہ وار پچنگ اور گروپ نشستوں کی پیش کش کے ذریعے اور نئے کاروباروں کے مالکان کے عملی تجربات تک رسائی کو ممکن بناتے ہوئے، انٹرپرائیونرز کو پہلے پہلنے کے لیے تقویت پہنچائے گا۔ کینیڈا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک کے طور پر، جدت طرازی اور کاروباری کامیابی کے حوالے سے برامپٹن ایک حقیقی مرکزی مقام کے طور پر سامنے آئے گا۔"

- ڈینیئل بیوا جنرل منیجر، ایلرکا ہیلتھ کارپوریشن۔

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)